

06 نومبر 2018

برامپٹن سٹیزنز ایوارڈز کے لیے کسی غیر معمولی رہائشی کو نامزد کریں

سٹی آف برامپٹن – سٹی آف برامپٹن اب برامپٹن سٹیزنز ایوارڈز کے لیے نامزدگیاں قبول کر رہا ہے۔ کسی غیر معمولی اتھلیٹ، فنکار، رضاکار یا مقامی ہیرو کو مئی 2019 میں ہونے والی ایوارڈز کی تقریب میں خدمات کے اعتراف کے لیے 13 جنوری 2019 سے پہلے نامزد کریں۔

برامپٹن سٹیزنز ایوارڈز عطا کر کے ایسے رہائشیوں کی خدمات کو تسلیم کیا جاتا ہے، جنہوں نے کسی قسم کی مفید کاوشیں کی ہوں یا 2018 کے تقویمی سال کے دوران درج ذیل زمروں میں سے کسی ایک میں کوئی بڑی کامیابی حاصل کی ہو:

- **سپورٹس اچیومنٹ ایوارڈ** کے ذریعے برامپٹن کے ایسے اتھلیٹس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جنہوں نے صوبائی، قومی یا بین الاقوامی سطح پر کوئی شاندار کامیابی حاصل کی ہو۔
- **آرٹس ایکلیم ایوارڈ** ایسے افراد یا گروپوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جن کی فنون میں مثالی کامیابیوں نے کمیونٹی پر مثبت اثر ڈالا ہو اور سٹی آف برامپٹن میں فنون کو فروغ دیا ہو۔
- **لانگ ٹرم سروس ایوارڈ** کے ذریعے ایسے وقف شدہ رضاکاروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، جنہوں نے ہمارے شہر میں کمیونٹی کی زندگی کو بہتر بنانے اور ترقی دینے کے لیے بہت زیادہ وقت اور کوشش وقف کی ہو۔
- **انسپائریشنل ایوارڈ** کے ذریعے برامپٹن کے ایسے شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو اعلیٰ مشفقانہ اقدار کا پرچار کرتے ہوں اور/یا ان پر عملی کام کرتے ہوں یا ایسے شہری جو دوسروں کے لیے رغبت کا باعث بنے ہوں۔
- **ایمرجنسی سروسز ایوارڈ آف ویلور** کے ذریعے ایسے فرد یا افراد کی کاوشوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جنہوں نے دوسروں کی زندگی/زندگیوں کو بچانے کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہو۔
- **وانٹینر آف دی ایئر ایوارڈز برامپٹن** کے ایسے رضاکاروں اور نوجوان رضاکاروں کی کاوشوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جنہوں نے کسی مخصوص سرگرمی یا کردار کے بجائے پوری کمیونٹی میں اپنی شمولیت ظاہر کی ہو۔ اس ایوارڈ کے ذریعے ایسے مقامی لوگوں کی عزت افزائی کی جائے گی جنہوں نے کمیونٹیز کو بنایا ہو اور یہ ثابت کیا ہو کہ جذبے اور حوصلے کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ایوارڈ عمر کے دو زمروں میں دستیاب ہیں: بالغان اور 18 سال سے کم نوجوان رضاکار
- **سینئر آف دی ایئر ایوارڈ 65** سال سے زائد عمر کے کسی ایسے شخص کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جنہوں نے مخصوص انسانیت پسند کاوشوں یا کمیونٹی کی مکمل بڑھوتری میں شمولیت کے ذریعے برامپٹن میں معیار زندگی بہتر بنانے میں کوئی قابل ذکر کردار ادا کیا ہو۔

کمیونٹی کے اراکین پر مشتمل ایک سلیکشن کمیٹی اس بات کا تعین کرنے کے لیے نامزدگیوں کا جائزہ لے گی، کہ کون سے رہائشیوں کو مئی 2019 کی ایوارڈز کی تقریب میں خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ کمیٹی میں ایسے افراد شامل ہیں جو ایوارڈ کے زمروں میں متعلقہ مہارتیں رکھتے ہیں، جن کے ساتھ سٹی کے منتخب شدہ افسران اور برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، برامپٹن سپورٹس الانس، برامپٹن سینینرز کونسل اور پبل ریجنل پولیس کے نمائندے شامل ہوں گے۔

پروگرام کے بارے میں معلومات یا نامزدگی فارمز کے حصول کے لیے www.brampton.ca/citizensawards ملاحظہ کریں۔

اقتباس

"برامپٹن ایک متنوع، خوش آمدید کہنے والی، سخی کمیونٹی ہے، جس کا سہرا ہمارے رہائشیوں کی کاوشوں کے سر پر ہے۔ سٹیزنز ایوارڈز کچھ ایسے غیر معمولی افراد کی خدمات کو تسلیم کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں، جو ہر روز ہمارے شہر کو ایک بہتر جگہ بنانے میں مدد کرتے ہیں۔"

- سٹی کونسلر گرہریٹ ڈھلون، چیئر آف دی سٹیزنز ایوارڈز کمیٹی

30--

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم نیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

کرسٹین شرما

میڈیا ریلیشنز

سٹی آف برامپٹن

905.874.2880 | christine.sharma@brampton.ca